

فعل المضارع المجزوم

The Imperfect Verb

فعل مضارع کی اصلی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے اور دو تبدیل شدہ حالتیں منصوب اور مجزوم ہوتی ہیں۔

The original case of مضارع فعل is مرفوع and two changed cases are منصوب and مجزوم.

الحرف الجَزْمَة / جوازم المضارع

فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف آتے ہیں جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی تبدیلی لاتے ہیں۔ ان حروف کو "جوازم المضارع" یا "الحرف الجَزْمَة" (جزم دینے والے حروف) کہتے ہیں۔ جوازم المضارع چار ہیں۔

جوازم مضارع: The particles which occur before فعل مضارع changing it both word wise and meaning wise are called جوازم مضارع or حروف جزمہ. There are four جوازم مضارع: لاناہیہ، لام امر، ل، لَمَّا، لَمْ: مضارع

لَمْ ، لَمَّا ، لَمْ ، لَمْ

هزرة وصلی	معنی (Meaning)	الحروف الجَزْمَة
لَمْ يَذْهَبْ (وہ ہرگز نہیں گیا) He was not went.	ہرگز نہیں تھا (Was not/did not)	لَمْ
لَمْ يَذْهَبْ (وہ ابھی تک نہیں گیا) He hasn't gone yet.	ابھی تک نہیں (Not yet)	لَمْ
يَذْهَبْ (چاہیے کہ وہ جائے) He should go.	کرنا چاہیے (Should)	لَمْ (لام امر)
لَا تَذْهَبْ (نہ جاو) Don't go.	نہیں کرو (Do not/ should not)	لَا نَاهِيَة

اوپر دیا گئے جوازم المضارع میں سے ہر حرف کا فعل مضارع پر الگ اثر ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم لَا نَاهِيَةَ کے بارے میں پڑھیں گے۔

These particles occur before فعل مضارع and render it مجزوم (accusative). They also bring a change meaning wise. Each of these particles has a different effect on فعل مضارع. So each one will be dealt with separately.

(Red light LAA) لَا نَاهِيَةَ

● لَا نَاهِيَةَ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ LAA nahiya makes Fail Mudare majzoom

● معنوی طور پر فعل مضارع میں فعل ترک کرنے کی طلب کا معنی پیدا کرتا ہے۔ مطلب کس کام کو کرنے سے روکتا ہے یعنی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مثلاً

Meaning wise it denotes the prohibition of an act, i.e. prohibit someone from doing something. Order someone not to do something. The Method of Formation: It is formed by putting لَا نَاهِيَةَ before فعل المضارع.

You don't hit. لَا تَضْرِبُ (تم نہیں مارو)

you hit. تَضْرِبُ (تم مارتے ہو)

فعل مضوع مجزوم

وہ (واحد مذکر) نہ مارے (He/m) don't hit	لَا يَضْرِبُ	هُوَ
وہ دو (مذکر) نہ ماریں (They2/m) don't hit	لَا يَضْرِبَانِ	هُمَا
وہ سب (مذکر) نہ ماریں (They all/m) don't hit	لَا يَضْرِبُونَ	هُمْ
وہ (واحد مؤنث) نہ مارے (She/f) don't hit	لَا تَضْرِبُ	هِيَ
وہ دو (مؤنث) نہ ماریں (They 2/f) don't hit	لَا تَضْرِبَانِ	هُمَا
وہ سب (مؤنث) نہ ماریں (They all/f) don't hit	لَا يَضْرِبْنَ	هُنَّ
تم (واحد مذکر) نہ مارو (You/m) don't hit	لَا تَضْرِبُ	أَنْتَ
تم دو (مذکر) نہ مارو (You 2/m) don't hit	لَا تَضْرِبَانِ	أَنْتُمَا
تم سب (مذکر) نہ مارو (You all/m) don't hit	لَا تَضْرِبُونَ	أَنْتُمْ
تم (واحد مؤنث) نہ مارو (You/f) help	لَا تَضْرِبِي	أَنْتِ
تم دو (مؤنث) نہ مارو (You 2/f) don't hit	لَا تَضْرِبَانِ	أَنْتُمَا
تم سب (مؤنث) نہ مارو (You all/f) don't hit	لَا تَضْرِبْنَ	أَنْتُنَّ

فعل مضارع مجزوم علامة جرمه السكون الفاعل صمير مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ أَنْتَ	لَا تَضْرِبْ
فعل مضارع مجزوم علامة جرمه حذف نون الفاعل الألف	لَا تَضْرِبَا
فعل مضارع مجزوم علامة جرمه حذف نون الفاعل الواو	لَا تَضْرِبُوا
فعل مضارع مجزوم علامة جرمه حذف نون الفاعل الياء	لَا تَضْرِبِي
فعل مضارع مجزوم علامة جرمه حذف نون الفاعل الالف	لَا تَضْرِبَا
فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم الفاعل النون النسوة	لَا تَضْرِبْنَ

Difference between لانھی and لا نفی:

لَا النَّهْيَةَ (لا نفی) اور لَا النَّافِيَةَ (لا نفی) میں فرق:

لَا النَّافِيَةَ غیر عامل حرف ہے۔ یہ صرف فعل مضارع کے معنی کو نفی میں تبدیل دیتا ہے۔ کام کے نہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ فعل میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔

لَا النَّافِيَةَ changes فعل المضارع into negation. It describes the action not being done. It does not bring any change in the morphology of the فعل. It is a non-causative particle. The فعل remains nominative

لَا النَّهْيَةَ عامل حرف ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور لَا النَّهْيَةَ کے آنے سے کسی کام کے نہ کرنے کے حکم کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی کام کے کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔

لَا النَّهْيَةَ denotes the command to not to do an action. Prohibits from doing an action. It is a causative particle and gives a جزم to فعل المضارع.

لَا تَضْرِبْ (نہیں مارو)

Don't hit.

لَا تَضْرِبْ (تم نہیں مارتے)

You do not hit.

تَضْرِبْ (تم مارتے ہو)

You hit.

فعل مضارع مجزوم

		الأفعال الخمسة		الأفعال الأربعة			
Remains unchanged in all mood. اعراب بدلنے کے باوجود مبنی رہتا ہے		نون ن comes ن goes نون آتا ہے / نون جاتا ہے		5 in your pocket پانچ آپ کی جیب میں			
مَجْرُومٌ	مَوْفُوعٌ	مَجْرُومٌ	مَوْفُوعٌ	مَجْرُومٌ	مَوْفُوعٌ		
No change	No chang	لا	ن	لا	ن		
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	هُوَ	يَذْهَبُ
		لا يَذْهَبُوا	يَذْهَبُونَ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	هُمَا	يَذْهَبَانِ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	هُمْ	يَذْهَبُونَ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	هِيَ	تَذْهَبُ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	هُمَا	تَذْهَبَانِ
لا يَذْهَبِينَ	يَذْهَبِينَ	لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	هُنَّ	يَذْهَبْنَ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	أَنْتِ	تَذْهَبُ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	أَنْتُمَا	تَذْهَبَانِ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	أَنْتُمْ	تَذْهَبُونَ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	أَنْتِ	تَذْهَبِينَ
		لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	أَنْتُمَا	تَذْهَبَانِ
لا تَذْهَبِينَ	تَذْهَبِينَ	لا يَذْهَبَانِ	يَذْهَبَانِ	لا يَذْهَبُونَ	يَذْهَبُونَ	أَنْتِنَّ	تَذْهَبْنَ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ﴾ (سورة الحجرات: 11)

اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔

O you who have believed, let not a people ridicule [another] people;

﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة البقرة: 35)

مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں (شامل) ہو جاؤ گے۔

But do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers."

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (سورة بنی اسرائیل: 31)

اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں (بھی) روزی دیتے ہیں۔

And do not kill your children for fear of poverty.

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ (سورة الاحزاب: 32)

تو (مردوں سے حسب ضرورت) بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔

If you fear Allah, then do not be soft in speech [to men],

﴿وَلَا يَهِنُوا وَلَا يَحْزَنُوا﴾ (سورة آل عمران: 139)

اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو۔

So do not weaken and do not grieve,